

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

آؤقرآن سمجھیں

آسان طریقے سے

کورس - 4

البقرة: آیت: 93

صفحہ - 13، اشارہ - d

مرتب: ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم
بانی و ڈائریکٹر انڈر اسٹینڈ القرآن اکیڈمی



سوال : کیا آپ نے گوگل کو ٹز کیا؟

.B .نہیں


.A .جی ہاں

.D .آئندہ کریں گے۔ ان شاء اللہ

.C .ضرورت نہیں


سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔




سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔




سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔



ہم دوسرے 5 صفحات کے اشارات کو بائیں
ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔



اعادہ

میتاق خون

قتل و اخراج

بعض کتاب پر
ایمان؟

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے
سلوک

جاہل اور پڑھے
لکھوں کا حال

آگت صرف
چند دن

قاعدہ
آگت اور جنت کا

میتاق بنی
اسرائیل

اعادہ

میشاق خون

قتل و اخراج

بعض کتاب

موسیٰ و عیسیٰ

جاہل

چند دن

قاعدہ

میشاق

جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن
قاعدہ اور میثاق بھول کر

میشاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج

بعض کتاب پر ایمان؟ موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی؟

تیرہواں صفحہ

کتاب آنے پر انکار

بُرا سودا کفر کا

ایمان لاؤ!

مِثَاق، طور اٹھا کر

آیت	13	آیت
2	وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ^ل	2
3	وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ^ع فَلَمَّا	3
4	جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ^ع (۸۹)	4
5	بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا	5
6	أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ^ع	6
7	فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ	7
8	مُهِينٌ ^ع (۹۰) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا	8
9	نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ^ع وَهُوَ	9
10	الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ^ط قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ	10
11	اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ^ع (۹۱) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ	11
12	مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ	12
13	ظَالِمُونَ ^ع (۹۲) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ	13
14	الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمِعُوا ^ع قَالُوا سَمِعْنَا	14
15	وَعَصَيْنَا ^ع وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ^ط	15
16	قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ^ع (۹۳)	16



تیرہویں صفحے کے اشارات
TPI کے ذریعہ

کتاب آنے پر
انکار

بُرا سودا کفر کا

ایمان لاؤ!

بیٹاق، طور اٹھا
کر

تیرہویں صفحے کے
مختصر اشارات

انکار

بُرا سودا

ایمان

طور

کتاب کا انکار بُرا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاقِ طور یاد رکھو!



تعارف

چوتھا اشارہ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا
 جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾
 بئسما اشتروا به أن أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا
 أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده
 فبأؤو بغضبٍ على غضبٍ وللكافرين عذابٌ
 مهين ﴿٩٠﴾ وإذا قيل لهم امنوا بما أنزل الله قالوا
 نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو
 الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء
 الله من قبل إن كنتم مؤمنين ﴿٩١﴾ ولقد جاءكم
 موسى بالبينة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم
 ظالمون ﴿٩٢﴾ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم
 الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا
 وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
 قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ﴿٩٣﴾

ميثاق، طور اٹھا کر



چوتھا اشارہ

چھلی آیتوں سے تعلق

اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بد اعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کے سچی سچی پیروی کے سچے پیروں کو اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے۔

میتاق، طور اٹھا کر

آیت	13	البقرة 2
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ	2	7
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا	4	7
جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾	1	3
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا	2	10
أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ	2	8
فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ	4	2
مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا	1	3
نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ	1	3
الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ	2	7
اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ	6	8
مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ	4	4
ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ	3	5
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا	2	4
وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ	2	2
قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾	1	3

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا

وَعَصَيْنَا ق وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بَكُفْرِهِمْ ط

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

ميثاق، طور اٹھا کر

اسباق

- اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے۔
- گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے۔
- سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے؛ اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی و مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے؛ تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنِكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا

وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

مِيثَاق، طور اٹھا کر

قرآن کتنا آسان ہے! آپ کو ہر لائن میں تقریباً 1 نیا لفظ سیکھنا ہے۔
آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کو استعمال کریں گے۔

قرآن کو سمجھنے میں دو چیلنجز اور ان کا حل:

- الفاظ کے معانی: اشارات اور فقروں کی مدد سے سیکھیے۔
- گرامر: ٹی پی آئی اور عربی بول چال کی مدد سے سیکھیے۔



لفظی و فقہی ترجمہ اور شرح

- فقروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے۔
- نیا فقرہ آتے ہی اسی وقت ہم اس کی دو مرتبہ پریکٹس کریں گے۔



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر

ميثاق، طور اٹھا کر

السُّطُورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمِعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا

کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو، انہوں نے کہا: ہم نے سنا

وَعَصَيْنَا ق وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ط بَكَفَرِهِمْ ط

اور ہم نے نافرمانی کی اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب،

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

مؤمن۔

اگر تم ہو

تمہارا ایمان

تمہیں حکم دیتا ہے اس کا

کہہ دیجیے: کیا ہی بُرا ہے جو

میثاق، طور اٹھا کر

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

تمہارے اوپر

اور ہم نے بلند کیا

تم سے پختہ عہد

ہم نے لیا

اور جب

الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمِعُوا ط

اور سنو،

مضبوطی سے

ہم نے دیا تمہیں

جو

پکڑو

کوہ طور کو،

میثاق، طور اٹھا کر

R-5s-10-Loud



میثاق، طور اٹھا کر

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر

الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمِعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا

کوہ طور کو، پکڑو، جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو، انہوں نے کہا: ہم نے سنا

وَعَصَيْنَا ق وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ط بَكَفَرِهِمْ ط

اور ہم نے نافرمانی کی اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب،

قُلْ بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

مؤمن۔

اگر تم ہو

تمہارا ایمان

تمہیں حکم دیتا ہے اس کا

کہہ دیجیے: کیا ہی بُرا ہے جو

میتاق، طور اٹھا کر

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر

الطُّورِ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا ط

کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو،

- بنی اسرائیل تورات کو قبول کرنے میں سست اور غیر سنجیدہ تھے۔ انہیں ڈرانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور اٹھایا تھا۔ اور یہ کوئی ان پر ایمان کو مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ وہ پہلے ہی حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اب ان کی بھلائی کی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طاقت کا ایک ہلکا سا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اپنے عہد کو یاد رکھیں۔

میثاق، طور اٹھا کر

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر

الطُّورِ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمِعُوا ط

کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو،

- جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو! انہیں تورات کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس کے حقوق ادا کرنے، جیسے تلاوت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بالکل یہی بات ہم کو قرآن مجید کے تعلق سے کہی گئی ہے۔

میثاق، طور اٹھا کر

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر

میثاق، طور اٹھا کر

الطُّورِ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمِعُوا ط

کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو،

- بنی اسرائیل پر کوہ طور کو اٹھانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پر عمل کرنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر

میثاق، طور اٹھا کر

الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا

کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو، انہوں نے کہا: ہم نے سنا

وَعَصَيْنَا ق

اور ہم نے نافرمانی کی

- کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور کیجیے کہ وہ منظر کتنا بھیانک رہا ہوگا! اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی! وہ کتنے نافرمان اور سرکش لوگ تھے! یہ تو اللہ کا رحم و کرم تھا کہ اس نے انہیں برباد نہیں کر دیا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر

میثاق، طور اٹھا کر

الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا

کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو، انہوں نے کہا: ہم نے سنا

وَعَصَيْنَا ق

اور ہم نے نافرمانی کی

- اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کا ”سَمِعْنَا“ کہنا، یہ صرف ان کی زبان پر تھا مگر ان کے دلوں میں ”عَصَيْنَا“ تھا۔ یہی وہ چیز تھی جو ان کے کاموں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہم بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ہم قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے معاشی معاملات اور معاشرتی رسم و رواج جیسے شادیاں وغیرہ کیسے ہیں؟ کیا ہم ان میں بھی اسلام پر عمل کرتے ہیں؟

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر

میثاق، طور اٹھا کر

الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمِعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا

کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو، انہوں نے کہا: ہم نے سنا

وَعَصَيْنَا ق وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ط بَكَفَرِهِمْ ط

اور ہم نے نافرمانی کی اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب،

- ”انہیں پلا دی گئی“۔ کس نے انہیں پلایا؟ اللہ نے۔ یہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور سزا کو براہ راست اللہ کی جانب منسوب نہ کیا جائے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر

میثاق، طور اٹھا کر

الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمِعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا

کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو، انہوں نے کہا: ہم نے سنا

وَعَصَيْنَا ق وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ط بَكَفَرِهِمْ ط

اور ہم نے نافرمانی کی اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب،

- جب انسان پانی پیتا ہے تو یہ پانی اس کی خون کی نالیوں میں پھیل جاتا ہے۔ ان کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، یعنی ان کے اندر بچھڑے کی محبت اتنی رچ بس گئی تھی کہ کئی معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ایک بچھڑے کی پرستش کی۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر

میثاق، طور اٹھا کر

الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا

کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو، انہوں نے کہا: ہم نے سنا

وَعَصَيْنَا ق وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ط بَكَفَرِهِمْ ط

اور ہم نے نافرمانی کی اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب،

- چنانچہ بنی اسرائیل کو سزا دی گئی اور انہیں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت میں چھوڑ دیا گیا۔ اس میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے جس کا نتیجہ اللہ کی جانب سے ملنے والی سزا پر نکلتا ہے۔

حدیث

- حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ واقع ایک پانی والی جگہ جسے ”خم“ کہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثنائیاں کی اور وعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو! میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ (موت کافرشتہ) آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں، البتہ میں تم میں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، پہلے تو اللہ کی کتاب اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ غرض یہ کہ آپ ﷺ نے اللہ کی کتاب کی جانب خوب رغبت دلائی۔ (مسلم: ۲۴۰۸)



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر

ميثاق، طور اٹھا کر

السُّطُورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمِعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا

کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو، انہوں نے کہا: ہم نے سنا

وَعَصَيْنَا ق وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ط بَكَفَرِهِمْ ط

اور ہم نے نافرمانی کی اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب،

عَلَّمَ



قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

مؤمن۔

اگر تم ہو

تمہارا ایمان

تمہیں حکم دیتا ہے اس کا

کہہ دیجیے: کیا ہی بُرا ہے جو

بیٹاق، طور اٹھا کر



سوال :- ترجمہ کیجیے : خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

A پکڑو جو ہم دیتے ہیں تمہیں

B پکڑو جو ہم نے دیا انہیں

C پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں

D پکڑو جو انہوں نے دیا تمہیں

سوال :- ترجمہ کیجیے : خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

A پکڑو جو ہم دیتے ہیں تمہیں

B پکڑو جو ہم نے دیا انہیں

C پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں

D پکڑو جو انہوں نے دیا تمہیں

سوال :- ترجمہ کیجیے : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

A ہم سنتے ہیں اور ہم نافرمانی کرتے ہیں

B ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی

C انہوں نے سنا اور انہوں نے نافرمانی کی

D ہم نے سنا اور انہوں نے نافرمانی کی

سوال :- ترجمہ کیجیے : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

A ہم سنتے ہیں اور ہم نافرمانی کرتے ہیں

B ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی

C انہوں نے سنا اور انہوں نے نافرمانی کی

D ہم نے سنا اور انہوں نے نافرمانی کی

سوال :- ترجمہ کیجیے : وَأَشْرِبُوا

A اور وہ سب محبوب قرار دیے گئے

B اور وہ سب کھلا دیے گئے

C وہ سب پلا دیے گئے

D اور وہ سب پلا دیے گئے

سوال :- ترجمہ کیجیے : وَأَشْرِبُوا

A اور وہ سب محبوب قرار دیے گئے

B اور وہ سب کھلا دیے گئے

C وہ سب پلا دیے گئے

D اور وہ سب پلا دیے گئے

سوال :- ترجمہ کیجیے : يَا مُرْكُم بِهٖ

A وہ حکم دیتا ہے تمہیں اس کا

B وہ حکم دیتا ہے انہیں اس کا

C وہ حکم دیتا ہے ہمیں اس کا

D وہ سب حکم دیتے ہیں تمہیں اس کا

سوال :- ترجمہ کیجیے : يَا مُرْكُم بِهٖ

A وہ حکم دیتا ہے تمہیں اس کا

B وہ حکم دیتا ہے انہیں اس کا

C وہ حکم دیتا ہے ہمیں اس کا

D وہ سب حکم دیتے ہیں تمہیں اس کا

سوال :- محمد ﷺ نے فرمایا: اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو۔
یعنی اس کے حقوق کو ادا کرو جیسے۔۔۔ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A تلاوت کرنا

B سمجھنا

C عمل کرنا (اس پر)

D اسے پھیلانا

سوال :- محمد ﷺ نے فرمایا: اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو۔
یعنی اس کے حقوق کو ادا کرو جیسے۔۔۔ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A تلاوت کرنا

B سمجھنا

C عمل کرنا (اس پر)

D اسے پھیلانا

سوال :- گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابھارتا ہے۔ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A دوسرے گناہ پر

B دوسرے نیک عمل پر

C نافرمانی پر

D سزا پر

سوال :- گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابھارتا ہے۔ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A دوسرے گناہ پر

B دوسرے نیک عمل پر

C نافرمانی پر

D سزا پر

سوال :- سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، لہذا ہمیں توجہ سے --- چاہیے۔

ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A قرآن کو سننا

B قرآن کے ترجمہ کو پڑھنا

C قرآن کے پیغام کو پھیلانا

D قرآن کو سمجھنا

سوال :- سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، لہذا ہمیں توجہ سے --- چاہیے۔

ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A قرآن کو سننا

B قرآن کے ترجمہ کو پڑھنا

C قرآن کے پیغام کو پھیلانا

D قرآن کو سمجھنا

الحمد لله



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

السُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمِعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا

وَعَصَيْنَا ق وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

ميثاق، طور اٹھا کر

ترجمہ

93۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا (اور کہا) جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سُنو، تو وہ بولے ہم نے سُنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں نکھڑار چا دیا گیا ان کے کفر کے سبب، کہہ دیں کیا ہی بُرا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔



اسباق، دعا اور پلان

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنِكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا

وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

ميثاق، طور اٹھا کر

اسباق

- اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے حقوق ادا کرنے پر بہت اہمیت دی ہے۔
- گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے۔
- سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی و مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے؛ تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں۔

عَلَّمَ



اے اللہ!

اے اللہ! ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ
تیری اطاعت و فرمانبرداری کریں۔



اے اللہ!

اے اللہ! ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ
تیری اطاعت و فرمانبرداری کریں۔

مطالعہ و غور و فکر



پلان (مثال کے طور پر):

ان شاء اللہ!

میں ہمیشہ قرآن سے جڑے رہنے کی
اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی
کوشش کروں گا۔



أفعال أسماء

ان آیات میں



أَسْمَاءُ

کچھ ان میں سے

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

اسم

الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنِكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا

وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

اسم

اسم

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

مِيثَاقٌ ← مَوَاطِيقُ +

قَلْبٌ ← قُلُوبٌ +

عِجْلٌ ← عُجُولٌ +

عِلْمٌ



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

TPI?

الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنِكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا

TPI?

وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

TPI?

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

ف ر ف ع رَفَعَ يَرْفَعُ ارْفَعُ رَافِع مَرْفُوع رَفَع

اسم فاعل
اسم مفعول
فعل

أفعال +

تین حروف والے صحت مند افعال

فَتَحَ، نَصَرَ، ضَرَبَ، سَمِعَ

عَلَّمَ



اسم فاعل
اسم مفعول
فعل

أفعال +

3 حروف والے

کمزور افعال: وَهَبَ، وَعَدَ، قَالَ، ---

ہمزہ والے افعال: أَمَرَ، شَاءَ، ---

یکساں حروف والے افعال: ظَنَّ، ضَلَّ، ---

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنِكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۙ (۹۳)

أَخَذَ	يَأْخُذُ	خُذْ	أَخَذَ	أَخَذَ	ن	أ خ ذ
قَوِيَ	يَقْوَى	اقْوِ	قَوِيَ	قَوِيَ	رض	ق و ي
عَصِيَ	يَعْصِي	اعْصِ	عَصِيَ	عَصِيَ	هد	ع ص ي



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنِكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا

وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٩٣

اسم فاعل
اسم مفعول
فعل

أفعال +

مزید فی افعال

عَلَّمَ، حَاسَبَ، أَسْلَمَ، اِخْتَلَفَ، اِسْتَفْغَرَ
تَدَبَّرَ، تَدَارَسَ، اِنْقَلَبَ

أَسَّ + أَتِي اتِي يُؤْتِي اتِي مُؤْتِي مُؤْتِي اِيتَاء

أَسَّ + شَرِبَ اشْرَبَ يُشْرِبُ اشْرَبَ مُشْرِبُ مُشْرِبُ اِشْرَاب

عَلَّمَ



سوال :- قَوِيّ کا فعل مضارع بتائیے

A مَقْوِيّ

B يَقْوِيّ

C يَقْوَى

D قَوِيّ

سوال :- قَوِيّ کا فعل مضارع بتائیے

A مَقْوِيّ

B يَفْوِيّ

C يَقْوَى

D قَوِيّ

سوال :- قَلَّ کا اسم مفعول بتائیے

A مَقَالَ

B قِلَّ

C قَلِيل

D —

سوال :- قَلَّ کا اسم مفعول بتائیے

A مَقَال

B قِلَّ

C قَلِيل

D —

سوال :- مِيثاق کی جمع بتائیے

A مِيثاقُونَ

B مَوَاتِيق

C مِيثَاقِينَ

D مِيثَاقُونَ

سوال :- مِيثاق کی جمع بتائیے

A مِيثاقُونَ

B مَوَاتِيق

C مِيثَاقِينَ

D مِيثَاقُونَ

الحمد لله





سات ہوم ورک

دو تلاوت کے (۵ منٹ مصحف سے، ۵ منٹ حافظے سے)

دو پڑھنے کے (کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے)

اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا mp3 سننا

اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا

اور نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا

آپ منتخب ہیں

1- اپنے لیے دعا کریں:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

2- اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ

اے اللہ! قرآن کی کلاس میں قرآن
سیکھنے میں ہماری مدد فرما!



ویڈیوز سے پڑھائیے!

◀ اگر آپ ویڈیو کو دیکھنے کی پابندی نہ کر سکیں تو موثر طریقہ یہ ہے کہ

اپنے 2، 5، 10 دوستوں کو جمع کیجیے اور مل کر ویڈیو سے سیکھیے۔

◀ جہاں میں **عِلْم** کہوں، ویڈیو کو روکیے اور آپس میں پریکٹس کیجیے۔





ورنہ آن لائن ٹیچرز سے پڑھیے

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹیچرز موجود ہیں۔

◀ اپنی ساری فیملی کے ساتھ سیکھیے یا بچوں کو پڑھائیے۔

www.understandquran.com





بہتر یہ ہے کہ خود ٹیچر بنیے!

سکھنے کا بہتر طریقہ سکھانا ہے! <

PPT فائلس ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھائیے! <

www.understandquran.com





ٹیچر ٹریننگ لیجیے!

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹرینرز موجود ہیں، اور

◀ ٹیچر ٹریننگ کا مواد بھی

www.understandquran.com



سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ.

اے اللہ ہمیں

- قرآن پڑھنے،
- سمجھنے،
- غور کرنے،
- عمل کرنے،
- پھیلانے،
- یاد کرنے کی

توفیق دے۔

